

(2) **The GLORIOUS QURA'N-Text, Translation & Commentary****By. : Maulana Abdul Majid Daryabadi****Publisher : ISLAMIC FOUNDATION, LEICESTER,
MARKFIELD (U.K)**

Year of Publication	:	2001
Pages	:	1150
Price	:	(Not mentioned)

قرآن کریم کا پیغام عام انسانوں تک پہنچانے کے لئے اسکی تشریح و ترجمانی کا سلسلہ زمانہ نزول سے جاری ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ مختلف زبانوں میں اس کتاب عظیم کے ترجمہ و تفسیر کی ضرورت محسوس کی گئی، دنیا کی دیگر زبانوں کے ساتھ انگریزی میں بھی اس کام کا آغاز ہوا اور اس میں پیش قدمی کا سہرا یورپین ا۔ کا لرس (بالخصوص مستشرقین) کے سر جاتا ہے۔ انگریزی میں سب سے پہلا ترجمہ قرآن برطانوی اسکالر الیگزینڈر اس (ALEXANDAR ROSS) سے منسوب کیا جاتا ہے جو ۱۶۳۹ء میں لندن سے شائع ہوا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ بعد میں مسلم ماہرین قرآنیات نے اس جانب توجہ دی اور اس باب میں برصغیر کے مسلمانوں کی خدمات بھی منظر عام پر آئیں۔ ان میں سید عبدالحمید کو انگریزی میں اولین مترجم قرآن کا شرف حاصل ہے۔ ان کا ترجمہ Divine Quran کے نام سے سب سے پہلے ڈھا کہ سے ۱۸۶۲ء میں شائع ہوا۔ بیسویں صدی عیسوی کے مترجمین و مفسرین میں نامور عالم و دانشور مولانا عبدالماجد دریا بادی (۱۸۹۲-۱۹۷۷ء) کو ایک خاص مقام حاصل ہے۔ مولانا دریا بادی عربی زبان و ادب اور قرآن و حدیث کے ماہر ہونے کے علاوہ عصری علوم بالخصوص فلسفہ، تاریخ و جغرافیہ پر گہری نظر رکھتے تھے۔ مولانا نے اردو و انگریزی دونوں میں قرآن کریم کا ترجمہ و تفسیر مرتب کیا۔ دونوں مستقل تالیفات

ہیں (ایک دوسرے کا ترجمہ و تلیخیص نہیں) اور ان کا انداز بھی جداگانہ ہے۔ خاص بات یہ ہے کہ مولانا کی انگریزی تفسیر پہلے شائع ہوئی۔ اس کا اولین ایڈیشن چار جلدوں میں تاج کمپنی لاہور سے ۱۹۵۷ء میں منظر عام پر آیا اور پھر مزید اہتمام سے ۱۹۸۵ء میں مجلس تحقیقات و نشریات، ندوۃ العلماء لکھنؤ سے اس کا دوسرا ایڈیشن نکلا اور اب بڑے آب و تاب سے اسلامک فاؤنڈیشن (لیسٹر، برطانیہ) سے اس کا نیا ایڈیشن ایک جلد میں شائع ہوا ہے۔ اس میں قرآن مجید کے مکمل ترجمہ کے ساتھ تفسیری مباحث کا اختصار حواشی کی صورت میں دیا گیا ہے۔ بالفاظ دیگر زیر تعارف مجموعہ ترجمہ و تفسیر قرآن مولانا کی انگریزی تفسیر کا اختصار یہ ہے۔

مولانا عبدالماجد دریابادی کے انگریزی ترجمہ و تفسیر کے اصل مخاطب اہل مغرب اور جدید تعلیم یافتہ مسلمان ہیں۔ اسمیں قرآنی آیات کے با محاورہ انگریزی ترجمہ کا اہتمام کیا گیا ہے۔ عربی و زبان لغت اور نحو و صرف کے حدود و قیود کا لحاظ کرتے ہوئے آیات کا ترجمہ اس طور پر کیا گیا ہے کہ متن سے اس کا ربط باقی رہے اور بالکل لفظی (Literal) ترجمہ بھی نہ معلوم ہو۔ انگریزی کے قدیم تراجم قرآن کے مقابلہ میں مولانا دریابادی کے ترجمہ کی زبان سادہ و سلیس ہے اور عام انگریزی داں مسلم وغیر مسلم باسانی اس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ تفسیری حواشی میں اسلام کے بنیادی عقاید کی تشریح و ترجمانی نہایت مدلل انداز میں کی گئی ہے: تاریخ عالم اور جغرافیہ سے متعلق آیات کی وضاحت میں مولانا نے خاص اہتمام سے کام لیا ہے۔ ان مقامات پر ان کے تفسیری حواشی بہت قیمتی ہیں جو دوسرے انگریزی مفسرین کے یہاں نہیں ملتے، مزید برآں انھوں نے جا بجا اپنی تشریحات کو جدید علوم و فنون کے ماہرین کے بیانات سے موکد کیا ہے اور اس میں جدید اثری (Archaeological) و جغرافیائی تحقیقات سے بھی فائدہ اٹھایا ہے۔ حواشی میں مختلف مقامات پر بائبل سے بھی حوالے درج کیے گئے ہیں۔

پیش نظر انگریزی ترجمہ قرآن کا ایک اہم پہلو یہ بھی ہے کہ اس کے شروع

میں مولانا سید ابوالحسن ندویؒ کی کا تفصیلی تعارف (Introduction) ہے، جو پہلے انگریزی تفسیر کے لکھنؤ ایڈیشن کے ساتھ شائع ہوا تھا۔ اس میں مولانا مرحوم نے اعجاز قرآن اور انگریزی میں ترجمہ قرآن کے آغاز و ارتقاء پر تفصیل سے روشنی ڈالی ہے اور مولانا دریابادی کے ترجمہ و تفسیر کی خصوصیات بھی واضح کی ہیں۔ اسلامک فاؤنڈیشن کے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر محمد مناظر احسن نے اپنے پیش لفظ (Foreword) میں مختصر لیکن نہایت جامع انداز میں مولانا کے علم و فضل کا ذکر کیا ہے اور اس ترجمہ و تفسیر کی تالیف و اشاعت کا پس منظر بیان کرتے ہوئے اس کے امتیازات کی نشاندہی کی ہے۔ انشاء اللہ یہ ترجمہ انگریزی داں حضرات کے لئے قرآن سمجھنے اور اس کے معانی اخذ کرنے میں مدد و معاون ثابت ہوگا۔

(۳) قرآنیات کے چند اہم مباحث

مصنف : ابوسفیان اصلاحی

ناشر : ابوسفیان اصلاحی، شعبہ عربی مسلم یونیورسٹی، علی گڑھ

صفحات : ۳۶۲

سن اشاعت : ۲۰۰۲ء

قیمت : ۱۰۰ روپے

یہ کتاب قرآنیات سے متعلق ان مقالات کا مجموعہ ہے جو ہندوستان کے مختلف موقر مجلات میں شائع ہوتے رہے ہیں۔ کتابی صورت میں اشاعت کے وقت ان پر نظر ثانی کی گئی ہے۔ ان مقالات کو تین حصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ پہلا حصہ ان مقالات پر مشتمل ہے جو مولانا حمید الدین فراہی کی بعض تصانیف سے متعلق ہیں جیسا کہ ان عناوین سے واضح ہے۔ (۱) مفردات القرآن۔ ایک مطالعہ (۲) حکمت قرآن۔ ایک مطالعہ (۳) مولانا فراہی کی سورہ واتسین۔ ان مقالات سے مولانا فراہی کے منہج تفسیر کے بعض اہم گوشے سامنے آتے ہیں۔ اور ان اہم موضوعات پر ان کا منفرد انداز تحقیق بھی نمایاں ہوتا ہے۔